

کی جگہ۔ اُلٹا پیش واؤ مدہ کی جگہ ہے۔

تنبیہ نوّن اور میم کے بعد جب حروف مدہ آرہے ہوں تو اس بات کا بہت اہتمام کریں کہ حروف مدہ کی آواز ناک میں نہ جائے۔

ب	ی	ر	ل	و
ن	ء	ھ	ع	خ
خ	ث	ث	ج	ذ
ز	س	ش	ض	ط
ظ	ف	ق	ک	ا
	و	ہ	ء	

تختی نمبر (۸) شتم مدولین

ہدایات حروف مدہ، و، آ، می یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو ساکنہ سے پہلے زیر ہو و او ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔

تنبیہ می، و ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ ان کے ادا کرتے وقت نہ تو انہیں کھینچا جائے اور نہ بھول پڑھا جائے۔ چونکہ یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو لین کہتے ہیں۔